



سوال

حدیث کو طبقات میں تقسیم کرنے کا مطلب

جواب

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بعض اہل علم نے کتب حدیث کو ان کی صحت کے درجات کے اعتبار سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ مثلاً شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں کتب حدیث کو ان کی صحت کے اعتبار سے چار درجات میں تقسیم کیا ہے:

پہلا درجہ: موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔

دوسرا درجہ: سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد۔

تیسرا درجہ: مسند ابی یعلیٰ، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن بیہقی، طبرانی کی معجم۔

چوتھا درجہ: کتاب الضعفاء والمبروحین لابن حبان، الکامل فی الضعفاء الرجال لابن عدی، خطیب بغدادی، ابو نعیم، جوزقانی، ابن عساکر، ابن نجار اور دیلمی کی کتب اور مسند خوارزمی۔

تلخیص از قواعد التحدیث از جمال الدین قاسمی: 247 ت 250

وباللہ التوفیق



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

فتاویٰ علمائے

حدیث

جلد 2 کتاب الصلوٰۃ

محدث فتویٰ کمیٹی